



دفتر مقام معظم رہبری
www.leader.ir

12 روزہ جنگ میں فلسطینی مزاحمت کی فتح کے بعد رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام – 25 / May / 2021

آیت اللہ خامنہ ای نے صیہونی ریاست کے ساتھ ۱۲ روزہ جنگ میں فلسطینی مزاحمت کو فتح پر مبارکباد پیش کیا۔
رہبر انقلاب کا پیغام تبریک درج ذیل ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلام ہو مقتدر و مظلوم فلسطین پر، سلام ہو فلسطین کے شجاع و غیور نوجوانوں پر، سلام ہو فاتح اور مجاہد غزہ پر، سلام ہو حماس، جہاد اسلامی اور فلسطین کے تمام سیاسی و جہادی گروہوں پر۔

خدائے عزیز و قدیر کا شکر بجا لاتا ہوں اس نصرت و عزت پر جو اس نے فلسطینی مجاہدین کو عطا کیا۔ خداوند مٹان سے شہیدوں کی قربانی پیش کرنے والوں کے مجروح دلوں کے لئے قرار و طمانیت، شہیدوں کے لئے رحمت و بشارت اور زخمیوں کی شفائے کامل کی دعا کرتا ہوں اور مجرم صیہونی حکومت پر فتح کی مبارکباد دیتا ہوں۔

ان چند دنوں کی آزمائش نے ملت فلسطین کو سرفرازی عطا کیا۔ وحشی و بھیڑیے صفت صیہونی دشمن بخوبی سمجھ گیا کہ فلسطین کے متحدہ قیام کے مقابل وہ بے بس ہے۔ غزہ، 1948 کی مقبوضہ سرزمین اور پناہ گزین کیمپوں سے قدس و غرب اردن کے تعاون کے اس امتحان نے فلسطینیوں کی آئندہ حکمت عملی کی نشاندہی کر دی۔

ان 12 دنوں میں فلسطین کے متحدہ قیام کے مقابلے میں اپنی ناتوانی کے باعث ظالم صیہونی حکومت ایسی شرمناک اور جنونی حرکتوں کی مرتکب ہوئی کہ اس نے ساری دنیا کی رائے عامہ کو اپنے خلاف اکسا دیا اور خود کو اور اپنی حامی مغربی حکومتوں بالخصوص مجرم امریکہ کو مزید نفرت انگیز بنا دیا۔ جرائم کا سلسلہ جاری رکھنا اور جنگ بندی کا مطالبہ کرنا دونوں ہی چیزیں اس کی شکست تھیں۔ وہ شکست قبول کرنے پر مجبور ہوئی۔

خبیث صیہونی حکومت ابھی مزید کمزور ہوگی۔ فلسطینی نوجوانوں کی آمادگی، قابل قدر جہادی گروہوں کی طاقت کا مظاہرہ اور قوت میں اضافہ فلسطین کو روز بروز زیادہ طاقتور اور غاصب دشمن کو روز بروز زیادہ ناتواں بنائے گا۔

جھڑپوں کے آغاز اور توقف کا وقت فلسطین کے سیاسی و جہادی عمائدین کی صوابدید پر منحصر ہے۔ لیکن آمادگی اور میدان میں پوری قوت کے ساتھ موجودگی میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہئے۔

صیہونی حکومت اور صیہونی بستیوں میں رہنے والوں کی زبردستی کے خلاف مزاحمت کا شیخ جراح کا تجربہ فلسطین کے غیور عوام کا دائمی دستور العمل ہونا چاہئے۔ 'شیخ جراح' کے بہادروں پر درود بھیجتا ہوں۔

مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں پورے عالم اسلام کی ذمہ داری اور شرعی فرائض ہیں۔ سیاسی شعور اور حکمرانی کے تجربات بھی اس شرعی حکم کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ مسلم حکومتوں کو چاہئے کہ فلسطینی قوم کی



دفتر مقام معظم رہبری
www.leader.ir

مدد کے لئے صدق دل سے میدان میں آئیں۔ عسکری تقویت، مالی پشتپناہی جس کی آج شدید ضرورت ہے اور غزہ میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو اور نقصانات کے ازالے کے لئے کام کریں۔

عوام کی طرف سے مطالبات ان دینی و سیاسی ضرورتوں کے سلسلے میں مددگار ہیں۔ مسلم عوام کو چاہئے کہ اپنی حکومتوں سے اس فریضے کی انجام دہی کا مطالبہ کریں۔ خود عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ حسب استطاعت مالی و سیاسی مدد کریں۔

ایک اور اہم فریضہ دہشت گرد و سفاک صیہونی حکومت کو سزا دلانا ہے۔ دنیا کے تمام باضمیر افراد کہہ رہے ہیں کہ ان 12 دنوں میں فلسطینی بچوں اور عورتوں کے قتل عام کی سزا ضرور ملنی چاہئے۔ اس حکومت کے تمام موثر افراد اور خود مجرم نیتن یاہو کے خلاف آزاد عالمی عدالتوں میں مقدمہ چلانا اور انہیں سزا دلانا چاہئے۔ نصرت خداوندی سے یہ کام انجام پائے گا۔ واللہ غالب علی امرہ

جمعہ 9 شوال 1442

31 اردیہشت 1400

(21 مئی 2021)

سید علی خامنہ ای